

سٹیم سیلز زندگی کے لیے

جب مجھے معلوم ہوا کہ ناٹو میں موجود خون کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، عوامی بینک میں اپنی ناٹو کے خون کا عطیہ دینا ایک آسان فیصلہ تھا۔

- نتھالی، کینیڈین بلڈ سروسز (Canadian Blood Services) کے ناٹو بلڈ بینک (Cord Blood Bank) میں دو بار ناٹو کے خون کا عطیہ دینے والی خاتون۔



**Canadian
Blood
Services**

BLOOD
PLASMA
STEM CELLS
ORGANS
& TISSUES

کیا آپ کو معلوم تھا کہ ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ناڑو اور آنول میں باقی رہ جانے والا خون زندگی بچانے والے سٹیم سیلز سے بھرپور ہوتا ہے؟

ناڑو کا خون لیوکیمیا سمیت 80 سے زائد امراض اور نقائص کا علاج کر سکتا ہے، پھر بھی اسے بطور ایک طبی فضلے کے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔

کینیڈین بلڈ سروسز (Canadian Blood Services) کا ناڑو بلڈ بینک (Cord Blood Bank) عطیہ کردہ ناڑو کے خون کو مستقبل میں ان مریضوں کے استعمال کے لیے جمع اور ذخیرہ کرتا ہے جنہیں غیر رشتے داروں کے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔


کینیڈا میں سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے تمام مریضوں کی نصف تعداد ایک سٹیم سیل عطیہ کرنے والے کو تلاش کرنے سے قاصر ہے۔

فیصد سے کم 25

مریضوں کو ان کے اپنے خاندان کے اندر مطابقت رکھنے والا عطیہ کنندہ ملتا ہے

باقی ماندہ 75 فیصد

کو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے غیر رشتے دار عطیہ کنندگان پر انحصار کرنا پڑتا ہے



ایک متنوع قومی عوامی (Cord Blood Bank) ناڑو بلڈ بینک

کا مطلب ہے ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک مطابقت رکھنے والے عطیہ کنندہ کے ملنے کا زیادہ امکان۔

ناڑو کے خون کا عطیہ کرنا مفت، آسان ہے اور اس سے ماں یا بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

ناڑو کا خون کا عطیہ چار مقامات پر دیا جا سکتا ہے:

اوٹاوا ہاسپٹل جنرل کیمپس The Ottawa Hospital General Campus
Ottawa Ontario

ولیمز اوسلر ہیلتھ سسٹم بمقام برمیٹن سویک ہاسپٹل
William Osler Health System at Brampton Civic Hospital
Brampton Ontario

البرٹا ہیلتھ سروسز لوئس ہول ہاسپٹل فار وومن
Alberta Health Services' Lois Hole Hospital for Women
Edmonton Alberta

بی سی وومن ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ سینٹر
BC Women's Hospital and Health Centre
Vancouver British Columbia

دیگر زبانوں میں ترجمے اور ترجمانی کی خدمات کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیں۔

آپ ایک ایسے عطیہ کنندہ ہو سکتے ہیں جو کسی کی زندگی بچاتا ہے۔
رجسٹر کرنا آسان ہے blood.ca/donatecord پر تشریف لائیں

مل جُل کر، ہم کینیڈا کا خطِ حیات ہیں